



اگر تو اسے اپنے ماموؤں کو دے دیتی تو تیرے لیے زیادہ اجر کا باعث ہوتا

ام المؤمنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی آزاد کر دی اور نبی کریم سے (اس کی) اجازت نہیں لی چنانچہ جب نبی کریم سے کہے ان کے پاس تشریف لائے (یعنی ان کی باری) کا دن ہوا تو انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ نے محسوس کیا کہ میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا (واقعی) تو نے ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: ”اگر تو اسے اپنے ماموؤں کو دے دیتی تو تیرے لیے زیادہ اجر کا باعث ہوتا“

[صحیح] [متفق علیہ]

ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا چونکہ یہ جانتی تھیں کہ اللہ کے راستے میں غلام آزاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے انہوں نے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا لیکن اس کی خبر نبی سے کوئی نہیں دی تھی یا آپ سے اس کو آزاد کرنے کی اجازت نہیں مانگی تھی لہذا جب ان کی باری تھی، تو انہوں نے آپ سے اس کے بارے میں بتلادیا آپ نے پوچھا: کیا (واقعی) تو نے ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں چنانچہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی رائے لیں بنا جو کچھ کیا تھا اس پر آپ نے کوئی نکیر نہیں فرمائی، صرف اتنا فرمایا: ”اگر تو اسے اپنے ماموؤں کو دے دیتی تو یہ تیرے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہوتا“ اس کا مطلب یہ ہے کہ: تو نے اچھا کیا، لیکن اگر تو اسے نبی کے لالہ کے اپنے ماموؤں کو دے دیتی تو یہ زیادہ ثواب کا باعث ہوتا اور بہتر ہوتا، اس لئے کہ اس میں اپنے قریبی رشتہ دار پر صدقہ کرنے کے ثواب کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3600>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

